



یہ دین ہے اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں دن اور رات کا چکر چلتا ہے اور اللہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے،

تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا: "یہ دین ہے اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں دن اور رات کا چکر چلتا ہے اور اللہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے، خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے (دنیا و آخرت کی) ذلت قبول کر لی جائے؛ ایسی عزت جو اللہ اسلام کے ذریعے عطا کرے گا اور ایسی ذلت جس سے اللہ کفر کی وجہ سے دوچار کرے گا" تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتا کرتے تھے کہ اس فرمان رسول کی صداقت میں نے اپنے خاندان میں دیکھی ہے کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا، اسے خیر، شرافت اور عزت نصیب ہوئی اور جو کافر رہا، اسے ذلت، رسوائی اور جزیہ کا سامنا کرنا پڑا

[صحیح] [رواہ أحمد]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب یہ دین روئے زمین کے تمام گوشوں میں پھیل جائے گا جہاں بھی رات اور دن کا سلسلہ ہے، وہاں یہ دین پہنچ جائے گا شہر و بستی اور دیہات و صحرا کا ایسا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا، جہاں یہ دین پہنچ نہ جائے لہذا جو اس دین کو قبول کرے گا اور اس پر ایمان رکھے گا، وہ اسلام کی طاقت کی برکت سے طاقت ور ہو جائے گا اس کے برخلاف جو اسے ٹھکرا دے گا، وہ رسوا اور ذلیل ہوگا پھر صحابی تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس بات کا تجربہ انہیں خود اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوا جو مسلمان ہو گئے، ان کو عزت ملی اور جنہوں نے کفر کیا، انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا انہیں مسلمانوں کو جو مال دینا پڑتا ہے وہ اس پر سوا ہوا ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/11220>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

